



## سوال

(438) خاوند کے گھر جمیزہ بیچنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے ملکی رواج کے مطابق شادی کے موقع پر گھریلو سامان عورت کے ورثا تیار کر کے خاوند کے گھر روانہ کرتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو بیوی سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ حق مہر کی رقم سے اسے تیار کرائے یا اپنے سر پرستوں پر زور ڈالے کہ وہ اسے تیار کر کے فراہم کریں، کیا عورت پر یا اس کے سر پرست پر واجب ہے کہ وہ گھریلو سامان تیار کر کے خاوند کو دے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شرعی طور پر گھر کا سامان شوہر پر واجب ہے، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرے اور اس گھر میں ہر قسم کی ضرورت کا سامان مثلاً برتن، بستہ اور فرنیچر وغیرہ فراہم کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَّرْ عَلَيهِ رِزْقًا فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاہُ اللہُ ۗ لَا يُلْفِظُ اللہُ نَفْسًا ۗ اِلَّا مَا لَیْسَ بِهَا [1]

”کشاہدی والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے حسب توفیق خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“

رہائش کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَسْكُنُوا مِمَّن مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ [2]

”جہاں تم خود رہتے ہو وہاں اپنی بیوی کو بھی رہائش دو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”تم پر معروف طریقہ سے ان عورتوں کو کھلانا پلانا، اور انہیں لباس مہیا کرنا لازم ہے۔“ [3]



پیش کردہ قرآنی آیات اور حدیث کا تقاضا ہے کہ گھر اور اس کی جملہ ضروریات فراہم کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے، بیوی یا اس کے سرپرست کے لیے گھر کی تیاری یا گھر یلو سامان خریدنا واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ لڑکی کے والدین گھر کا ساز و سامان خرید کر خاوند کے حوالے کریں، اس سلسلہ میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو یا اس کے والدین کو اس کام کے لیے مجبور کرے یا شادی کے بعد لڑکی پر سامان کی فراہمی کے لیے کوئی دباؤ ڈالے، ہاں اگر کوئی اس دباؤ سے آزاد ہو کر گھر کا سامان بنا کر دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، اگر نیت خالص ہے تو اس صدقہ پر ثواب کی امید بھی کی جاسکتی ہے، نیز واضح رہے کہ حق مہر خاص بیوی کا حق ہے، وہ جہاں چاہے اور جیسے چاہے اسے خرچ کرنے کی مجاز ہے، اسے معاف کر دینے یا گھر یلو سامان خریدنے کے لیے مجبور کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اگر اس کی رضا مندی سے استعمال کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَإِنْ طَلَبْنَ لَكُمْ عَمَّ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُنَّ مَبِيتًا مَّرِيئًا [4]

”اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا پی سکتے ہو۔“

بہر حال ہمارے ہاں لڑکی کی طرف سے گھر یلو سامان فراہم کرنے کی رسم جہیز اصلاح طلب ہے۔ (واللہ اعلم)

[1] ۶۵/الطلاق: ۷۔

[2] ۶۵/الطلاق: ۶۔

[3] صحیح مسلم، الحج: ۱۲۱۸۔

[4] ۳/النساء: ۳۔

حدیث ما عندی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 3، صفحہ نمبر: 370

محدث فتویٰ